



2 ZERO HUNGER

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

صحت مند
گاہوں

4 QUALITY EDUCATION

5 GENDER EQUALITY

6 CLEAN WATER AND SANITATION





صحت کو یقینی بنائیں
زندگی اور اچھی طرح سے
کے لیے ہونا
بالکل سب
عمریں

صحت مزد گاؤں

تھ

• سڈنڈنگ کو ختم کریں اور
برباد

• نو عمر لڑکیوں اور خواتین میں
خون کی کمی کو دور کریں۔

• کم قیمت ، انتہائی غذائیت سے

بھری اور مقامی طور پر حاصل کردہ
اناج، سبزیاں، پھل، انڈے وغیرہ

صحت مزد گاؤں





Coronavirus Prevention

Take steps to protect yourself



Avoid close contact



Clean your hands often



Stay at home



Cover coughs and sneezes



Wear a facemask if you are sick



Clean and disinfect

مہل

• متعدی بیماریوں سے بچاؤ اور
علاج کے اقدامات

• زچگی کی شرح صفر، 5 سال
سے کم عمر بچوں کی اموات

• سب کے لیے طبی دیکھ بھال اور
صحت کی سہولیات کی فراہمی



صحت مزد گاؤں

صحت کے لیے تنگی شلوٹ



صحت
کے
لئے

صفا
کے
لئے



صحت مزد گاؤں



AMC

صحت کے لئے

صحت

کے

لئے

صحت کے لئے

کمیٹیوں کو مضبوط کرنا



صلاحیت کی تعمیر میں شمولیت کو یقینی بنانا شامل ہے۔
صدت مزد گاؤں کی منصوبہ بندی



مقامی کمیٹیاں / ادارے جیسے ویلج ہیلتھ سیریز ٹریننگ ایڈزڈ زیوٹریشن کمیٹی /
گاؤں کی پانی اور صفائی کمیٹی / آنگن واڑی مانیٹرنگ کمیٹی / ایس ایچ جی

قائمہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں۔
صدت مزد گاؤں کے لیے

صدت مزد گاؤں



Low Cost No Cost Activities



میں پودے کی تقسیم
بچے کا نام



ابتدائی شناخت کو فروغ دیں، جلد
تشخیص اور بروقت علاج



ہیلتھ کیمرپ کا انعقاد

صحت مزد گاؤں



Low Cost No Cost Activities



صدت مزد بچے کو منظم کریں۔
دکھائیں۔

میں صفائی کا خیال رکھیں
برادری

مہم چلا رہے ہیں۔
کے ذریعے
مائی کنگ

صدت مزد گاؤں



Low Cost No Cost Activities



پرسوشل آڈٹ کا اہتمام کریں۔
کے مختلف پہلوؤں
صدت

کے ساتھ میڈنگ کا اہتمام کریں۔
فرنٹ لائن گراس روٹ لیول
ورکرز

ی شناخت
مزور آبادی کے
سماجی نقشہ سازی کے ذریعے

صدت مزد گاؤں

Low Cost No Cost Activities



احتیاطی تدابیر پر وال رائڈنگ
اقدامات

شو / ورکشاپ کا اہتمام کریں۔
عمر صحت پر ٹاک
نو

صحت مزد گاؤں



وفاق تلاش رکھ کر

- نیشنل ہیلتھ مشن
- تیزتر مشن اندرا دھنش
- قومی آیوش مشن
- چھتری آئی سی ڈی ایس
- پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا (PMMVY)
- پوشن ابھیان



پروگرام

- دیہی

- نیشنل ہیلتھ پروٹیکشن اسکیم (آیوشمان بھارت)



وہاں تلاش رکھیں

- قومی تپ دق کے خاتمے کا پروگرام
- قومی ویکٹر بورن ڈیزیز کنٹرول پروگرام
- نیشنل مینڈل ہیلتھ پروگرام
- تھام کے لیے قومی پروگرام
- نیشنل تمباکو کنٹرول پروگرام
- پروگرام
- راشٹریہ بال سوسٹھیا کاریاکرم
- جنانی شیشو تحفظ کاریاکرم



وگھوٹا فٹ سیکرہ

SHGs

وی ایچ ایس این سی

آنگن واڑی نگرانی

کمیٹی

کمیونٹی NRLM

ریسورس پرسنز (CRPs)

روگی کلیان سمیٹی

جوانی

این جی اوز / سی بی اوز

• معاون نرس مڈوائف (ANMs)

• ڈاکٹروں

• ASHAs

• آنگن واڑی کارکنان

• اساتذہ، مختلف متعلقہ محکموں کے

• سرکاری اہلکار



صدت مزد گاؤں

صحت مکمل
ہے۔
جسم، دماغ اور روح

